

بچوں کے لئے بائبل  
تحائف

سموئیل، خدایہ  
سُنڈ لوگت  
موگٹ بندہ



تصنیف کردہ: Edward Hughes

اس کے ذریعہ سچت: Janie Forest  
Alastair Paterson

کے مطابق: Lyn Doerksen

ترجمہ کردہ: [www.christian-translation.com](http://www.christian-translation.com)


کی طرف سے تیار: Bible for Children  
[www.M1914.org](http://www.M1914.org)

©2023 Bible for Children, Inc.


لائسنس: آپ کو اس کہانی کی کاپی یا طباعت کا حق ہے،  
جب تک کہ آپ اسے فروخت نہ کریں۔



حنا اُس اکھ رڙ خاتون اُکس رتس شخص القانہ سنز آشنی۔ یم  
اُسی دوشوے خدایہ سنز عبادت کران تہ باقین پٹھ مہربان۔  
مگر اکھ گمی اُس ضرور حنا سنز زندگی منز۔ سو اُس  
پڑھان اکھ شر۔ سو کاڑھ فیکرمند




اُس پنس شری سندِ بابتہ۔  
سو اُس پراران منگان تہ  
عبادت کران آسان۔  
مگر شراہ زاس نہ کینہہ۔



حنا آس پر پرتھ وریہ  
تجیر گندتھ مندرس  
مندرس منر عبادت  
کران۔ اکہ وریہ کور  
امی خدایس ستی عہد  
زیودوے تس سہ نیچو  
سوز، سو تھاو تس  
ہمیشہ خدایہ سنر  
خدمتر باپتھ۔



بزرگ پیشوا عیلتی بن وچہ  
حنا پھسراے کران۔ تمی  
سونچ حنا چھے شراب  
چیتہ۔ تکیاز تس اسی فقط  
وٹھے یاتی ہلان مگر  
آوازہ اس نہ کینہہ  
نیرا۔ عیلتی بن گر  
حنایہ کھر بکھ۔





مگر حنایہ وون پیشوا  
عیلیٰ ہس پنس شری  
سندِ بابتہ یڑھایہ ہند تہ  
خدایس ستی کرنہ امتہ پننہ  
عہدک۔ "دل تہاؤ ڈنجه۔"  
عیلیٰ ین وونس۔ "تہ اسرائیلک  
خدا دی نرے پن مراد یہ ژتس  
نش ژھانڈان چھیکہ۔"  
عیلیٰ سندیو لفظو گنراؤ  
حنایہ وومید۔



حنایہ ہند دل سپد جلدی خوش۔ "خداوندن تہاؤ سو یاد" تہ  
تسند التجا کورن قبول۔ تس تہ القان ہس سوزن اکھ نندبون  
اولاد یمس سموئیل ناو کورکھ۔ مطلب "خدایہ سند بوزمت"  
مگر کیا حنایہ تہ روزیا خداوند تہ پن وعدہ یاد۔



حنایہ ترورو پریتھ وریہ  
مندر گڑھن - مگر میانیو  
ٹاٹھیو! تمہ مشرووا پنن  
عهد تہ؟ نہ، حنا اس  
پراران سموئیل سندس  
ہنا بوڈ گڑھنس یتھ  
مندرس اندر روزتھ ہیکہ  
تہ عیلتی یس خدایہ سنز  
خدمت کرنس منز مدد  
ہیکہ گرتھ۔



حَنَائِيَهَ هِنَزِ اَتِهَ عَظِيْمِ  
فَرْمَانِبَرْدَارِي دِيوَت  
خَدَايِن اَمَس اِنْعَامِ -  
سَمُوئِيْلَس پَتِي بَخْش  
اَمَس خَدَايِن تَرِي مَزِيْد  
گُوْبَر تِه ز كُوْر - سُو رُوْز  
اِمِه پَتِي لُگَاتَار مَنْدَر  
گَرَهَان - خَدَايِه سَنَر  
عِبَادَتَر بَاپْتِه تِه اِمِه عِلَاو  
سَمُوئِيْل سَنَدِ بَاپْتِه نُوِي  
نُوِي پِلُو پِيْتِه -





سموئیلن اوس نہ عیسیٰ سُنْد کُنے مدد گار۔  
عیسیٰ سُنْدی ز گبر حُفنی تہ فینحاس تہ اسی  
اتہ کام کران۔ مگر تم اسی ویکھتی کار  
گرتہ خدایہ سُنْد تقدس تہ کم گران۔ تم  
اسی نہ مالی سُنْد بار بار  
ونہ باوجود تہ باز یوان۔  
عیسیٰ مس پزمہن یم  
دُونوے مندرچہ کامہ  
نشہ الگ کرنی مگر  
تمی کور نہ تہ۔





اکہ راژ بوز سموئیلن اکھ  
آلو امس ناد دیوان - امی  
لڑکن سونچ شاید چہ  
تس عیلتی ژھانڈان - "بہ  
چہس یتى "ٹمی وون -  
"مگر مئے نے دتے نہ  
ژمے کانہہ ناد - "عیلتی  
ین وونس یور - یہ سپد  
تریہ پھر - عیلتی یس  
توگ زانن ز خدا چہ  
یژھان سموئیلس سیتی  
ہمکلام سپدن -






عيلیٰ ین وون  
سموئیلِس "یودوے"  
ژے سہ ناد دیی یور  
وَنی زِس، خداوند  
وَنیو چون بند چہ کن  
دارتہ "تہ خداین لوے"  
امس پزی بیہ ناد تہ  
وَنین اکھ اہم شیچہ  
سموئیلِس۔



صبحس اوڻ عيلىٰ ين سموئيل ناد دته ته پروژهنس "خداوندن  
كوسه شيچھ باوے ژمے۔" جوان سموئيلن بوؤس سورے۔ يه  
أس بد وچاپه شيچھ۔ خدا اوس عيلىٰ ين سورے عيال گالن  
وول۔ تكياز حفنىٰ ته فينحاس اسي  
وچاپه ته مگري كار گران۔





خدایہ سندس ونس دراو ولی تر۔ فلسطینین ستری اُکس جنگس  
منز درایہ عیلتی سندی ز شیطان گبر خدایہ سُد نشان ہیتہ  
اسرائیلی فوجس بروئہ بروئہ۔ دشمنن کور یہ نشان ضبط۔

حفتی تہ تمی سُد بوئے فینحاس  
ہیتہ مارگہ واریاہ اسرائیلی۔ ییلہ  
عیلتی ین یہ بوز، سہ اوپنہ تختہ  
پٹہ وُکراوتہ پتھر لاینہ تہ پھٹس  
گردن تہ مؤد امی دوہ۔



مگر خدایہ سنز نشانہ انی فلسطینی شکس تہ بُربادی منز۔  
تمو تھوو یہ پنس ایزس خدایہ دجون سندس مندرس منز۔  
صبحس وچھکھ یہ دجون سند پوتل بُتھ کنی پتھرس پٹھ  
وُکراونہ اُمّت۔ فلسطینیو تل دجون تھوّد۔ مگر دویمہ دوہہ اوس  
سہ بیہ یتھے پاٹھی پتھر، س پٹھ دوہہ۔ امہ دوہہ اوس یہ چھلہ  
چھلہ گوّمّت۔





فلسطينين پهيوڙ موٽن ته رنگه  
رنگه وولکه بيماريو نال۔ خدا  
اوس يمن سزا دوان۔ فلسطيني  
اسي اته خدایه سنڙ نشانه۔  
پکناوان یتھ ز گاو کمان اسپ۔  
مگر گاون ٻنڌي وڙهي اسپه  
ٻنڌ تهاوي متي۔ "يودوي يمه  
گاو پني وڙهي يتي تراوتھ  
سيودے اسرائيل واڙ۔ تيله زانو  
اسي زيہ چھ خدایه سنڌ  
کرن۔" يمو وون ته گاو درايه  
سيودے اسرائيل گن۔





امہ پتہ وون سمولین سارنہ  
اسرائیلی لوکن۔ "یودوے"  
توہی خدا وندس کن دل و  
جان پھیریو سہ د، یو توہہ  
یمو فلسطینیو نشہ نجاتہ۔"  
اسرائیلیو مون خدایہ سندس  
فرنانبردار پیغمبر سُنْد۔ تہ  
سموئیل سندس وقتس  
دوران رودی خداوند سُنْد  
اتہ فلسطینین خلاف۔



سموئیل، خدایہ سُنڈ لوکٹ موکٹ بندِ  
خدا کے کلام، بائبل کی ایک کہانی،

میں پایا جاتا ہے

1 سموئیل 7-1

"آپ کے الفاظ کا داخلہ روشنی بخشتا ہے۔"  
زبور 130:119



ختم شد



بائبل کی یہ کہانی ہمیں ہمارے حیرت انگیز خدا کے بارے میں بتاتی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور کون چاہتا ہے کہ آپ اسے پہچانیں۔

خدا جانتا ہے کہ ہم نے برا کام کیا ہے، جسے وہ گناہ کا نام دیتا ہے۔ گناہ کی سزا موت ہے، لیکن خدا آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے، یسوع کو، صلیب پر مرنے اور آپ کے گناہوں کی سزا دینے کے لئے بھیجا۔ پھر یسوع زندہ ہوا اور جنت میں گھر چلا گیا! اگر آپ یسوع پر یقین رکھتے ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لئے کہیں گے، تو وہ کرے گا! وہ اب آئے گا اور آپ میں زندہ رہے گا، اور آپ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔

اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ حقیقت ہے تو، خدا سے یہ کہنا:  
پیارے عیسیٰ، مجھے یقین ہے کہ آپ خدا ہیں، اور میرے گناہوں کے لئے مرنے کے لئے ایک آدمی بن گئے، اور اب آپ دوبارہ زندہ ہوں۔ براہ کرم میری زندگی میں آئیں اور میرے گناہوں کو معاف کر دیں، تاکہ میں اب نئی زندگی پاؤں، اور ایک دن ہمیشہ کے لئے آپ کے ساتھ رہوں گا۔ آپ کی اطاعت کرنے اور اپنے بچے کی طرح آپ کے لئے زندہ رہنے میں میری مدد کریں۔ آمین۔

بائبل کو پڑھیں اور خدا کے ساتھ ہر روز بات کریں! جان 3:16

